



بەش.....فەلسەفە.....

کۆلیژ.....ئەدەبیات.....

زانکۆ.....زانکۆی سەلاحەددین.....

بابەت.....چەمکە فەلسەفییەکان بە ئینگلیزی.....

پەرتووکی کۆرس – (قۆناغی دووھەم)

ناوی مامۆستا / م. ی. بەختیار کەریم قادر

سالی ھوێندن: 2021/2020

## پەرتووکی كۆرس Course Book

دەققە فەلسەفییەكان بە نینگلیزی							1. ناوی كۆرس
بەختیار كەرىم							2. ناوی مامۇستای بەر پرس
<b>فەلسەفە ئەدەبیات</b>							3. بەش / كۆلیژ
نیمیل: bakhtyarkarim@gmail.com ژمارەى تەلەفون (07504916969)							4. پەيوەندى
بۇ نموونە تیۆرى: 8 يەكە بابەت / دەققە فەلسەفییەكان بە نینگلیزی + فەلسەفەى زانست پراكتیک: تەنھا بابەتەكە تیوریە							5. يەكەى خویندن (بە سەعات) لە هەفتەپەك
بۇ نموونە تیۆرى: 12 يەكە بابەت / چەمكە فەلسەفییەكان بە نینگلیزی + فەلسەفەى زانست پراكتیک: تەنھا بابەتەكە تیوریە <b>خستەى وانەكانى هەفتە</b>							6. ژمارەى كارکردن
1,30	12,30	11,30	10,30	9,30	8,30		
						شەممە	
	چەمكە فەلسەفییەكان بە نینگلیزی	چەمكە فەلسەفییەكان بە نینگلیزی		چەمكە فەلسەفییەكان بە نینگلیزی	چەمكە فەلسەفییەكان بە نینگلیزی	يەك شەممە	
						دووشەممە	
		سەینارى بەش	سەینارى كۆلیژ			سە شەممە	
فەلسەفەى زانست	فەلسەفەى زانست	فەلسەفەى زانست	فەلسەفەى زانست	چەمكە فەلسەفییەكان بە نینگلیزی	چەمكە فەلسەفییەكان بە نینگلیزی	جوار شەممە	
						پەنج	
							7. كۆدى كۆرس
ئىرە مامۇستای وانەبىژ پروفایەلىك دەنوسنیت لەسەر ژيانى نەكادىمى خۆى (تەنھا نەكادىمى) يان نامازە							8. پروفایەلى

<p>به Webpage, Blog, Moodle دهکات</p> <p>ناو / بهختیار کهریم قادر</p> <p>سال له‌دایک بوون / 1 / 1974/7</p> <p>باری خیزانی / خیزاندار</p> <p>زماره‌ی موبایل / 07504916969</p> <p>نیمیل / bakhtyarkarim@gmail.com</p> <p><b>میژووی خویندن :</b></p> <p>نیستا قوتابی دکتورام له زانکوی (لایدن)ی هۆله‌ندی له چوارچیوه‌ی پرۆژه‌یه‌کی هاوبه‌شی زانکوی لایدن و زانکوی سه‌لاحه‌دین.</p> <p>له سالی 2013هوه تا نیستا ماموستای یاریده‌ده‌رم له به‌شی فله‌سه‌فه/کۆلیژی نه‌ده‌بیات زانکوی سه‌لاحه‌دین.</p> <p>سالی 2010 تا 2013 وهک شاره‌زا له وه‌زاره‌تی پلاناندان و نه‌نجومه‌نی وه‌زیران کارمکرده‌وه.</p> <p>2008 تا 2010 وهک شاره‌زا له‌گه‌ل نه‌ته‌وه یه‌گرتووه‌کان کارمکرده‌وه له‌بواری په‌ره‌پیدان.</p> <p>به‌ده‌سته‌هینانی پروانامی ماسته‌ر له سالی 2007 له به‌شی په‌یه‌ه‌ندییه نیوده‌وله‌تیه‌کان له زانکوی نۆکسفۆرد بروکس له به‌ریتانیا.</p> <p>به‌ده‌سته‌هینانی پروانامه‌ی به‌کالۆریۆس له سالی 2006 له به‌شی سیاسه‌ت و یاسای زانکوی نۆکسفۆرد بروکس له به‌ریتانیا.</p>	<p>ماموستا</p>
	<p>9. وشه سه‌ره‌کیه‌کان</p>
<p>10. ناوه‌رۆکی گشتی کۆرس:</p> <p>لیره ماموستای وان‌ه‌یژ باس له کۆرسه‌که ده‌کات به شیوه‌یه‌کی گشتی که پێویسته ئەم خالاته‌ی خواره‌وه بگرت‌ه‌وه:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• گرنگی خویندنی کۆرسه‌که (بابه‌ته‌که)</li> <li>• تیگه‌یشتنی چه‌مکی سه‌ره‌کی کۆرسه‌که</li> <li>• بنه‌ما و بێردۆزی کۆرسه‌که</li> <li>• زانینی ته‌واو به لایه‌نه گرنگیه‌کانی بابته‌که</li> <li>• زانینی و تیگه‌یشتنی پێویست بۆ دابین کردنی هه‌لی کار</li> </ul> <p>کۆرسی چه‌مکه فله‌سه‌فیه‌کان به ئینگلیزی له به‌شی فله‌سه‌فه گرنکه بۆ ئاشناکردنی قوتابیان به چه‌مک و ده‌قه ئینگلیزیه‌کان و به‌رزکردنه‌وه‌ی ئاستی زمانی ئینگلیزیان. کۆرسه‌که له‌رنگه‌ی هه‌لبژاردنی ده‌فۆیک یان زیاتری فله‌سه‌فه‌کان به زمانی ئینگلیزی، ئاستی تیگه‌یشتن و شروقه‌کردنی قوتابیان زیاد ده‌کات. کۆرسه‌که پێکدێت له خویندنه‌وه و شیکاری ده‌قه‌کان، وه‌رگرتن و وه‌رگیرانی چه‌مکه سه‌ره‌کیه‌کان و گه‌توگۆکردن له‌سه‌ر به‌شه‌کانی ده‌قه‌که. ئەم کۆرسه‌ قوتابیان توانادار ده‌کات له زمانی ئینگلیزی بۆ مه‌به‌ستی توێژینه‌وه و کارکردن له بواری فله‌سه‌دا. قوتابیان هه‌فته‌انه کۆمه‌لێک چه‌مکی فله‌سه‌فیه‌یان پێده‌درێت به‌مه‌به‌ستی گه‌ران و توێژینه‌وه، هه‌فته‌ی دواتر گه‌توگۆ له‌سه‌ر ئەو چه‌مکه‌ ده‌کریت. ئامانجیکێ تری کۆرسه‌که به‌رزکردنه‌وه‌ی توانای قوتابیان به‌ گه‌توگۆ و ئارگومێنتسازی فله‌سه‌فیه‌ی.</p>	

**11. نامانجەكانى كۆرس**

ئاشناكردنى قوتايان بە چەمك و دەقە فەلسەفەيەكان و دىبەيتە تازەكان بە زمانى ئىنگلىزى. ھەرۈھە ئامانجى ئەم كۆرسە بەرزكردنەۋەى تۈنەكى قوتايىيە بۇ خويىندنەۋەى و نووسىن و گەتوگۇ بە زمانى ئىنگلىزى.

**12. نەركەكانى قوتايى**

لېرە مامۇستا بەرپرسىارپىتى قوتايى خويىندكار رووندەكاتەۋە سەبارەت بە كۆرسەكە بۇ نمونە ئامادەبوونى قوتايان لە وانەكاندا، لە تاقىكردنەۋەى مەكاندا، راپۇرت و ووتار نووسىن... ھتد.

پىۋىستە قوتايى ئامادەبىت لە سەرچەم وانەكان بە شۆەيەكى بەردەوام .

پىۋىستە قوتايى بە شداربىت لە وانەكان بە شۆەيەكى كىردارەكى لەرېگەى دەربرىنى بىرو بۇچوونەكانى خۇى.

پىۋىستە لە سەر قوتايى ئامادەبىت بۇ تاقىكردنەۋەى رۇژانەۋە تاقىكردنەۋەى مانگانە بۇ دىيارىكردنى ئاستى و كۆكردنەۋەى نمرەى كۆششى سالانە.

**13. رېگەى وانە ووتنەۋە**

لېرە مامۇستا رېگەى وانە ووتنەۋە دەنووسىت، بۇ نمونە: داتاشۇ و پاۋەرپۇىنت، سەر تەختەرەش، تەختەى سىپى، سمارتپۇرد يان مەلزمە... ھتد.

لېرەدا مامۇستا ھەموو رىپتە و طشت ھۇ و ئىناۋەكان دەطرىتە بەر بۇ ئقوۋەى بە جۈانتىرىن شىۋە بابەتەكان بطات بە قوتايى لە رىطاي بەكار ھىنانى داتاشۇ و گەتوگۇى رۇژانە.

**14. سىستەمى ھەلسەنگاندن**

لېرە مامۇستا جۇرى ھەلسەنگاندن (تاقىكردنەۋەى مەكان يان ئەزمونەكان) دەنووسىت بۇ نمونە تاقىكردنەۋەى مانگانە، كۈيزەكان، بىر كىردنەۋەى رەخنەگرانە (پرىزەنتەيشن)، راپۇرت نووسىن، ووتار نووسىن يان ئامادەبوونى خويىندكار لە پۇلدا... ھتد. ئامانە چەند نمرەى لە سەر دەبىت و مامۇستا چۆن نمرەكان دابەشەكات؟

لە م بابەتەدا ھەلسەنگاندنى مامۇستا ۋەستاۋە لە سەر ئەم پۆەرەنەى خوارەۋە :

1 تاقىكردنەۋەى مانگانەۋە كۈيزەكان ( 30 ) نمرەى بۇ تەرخانكراۋە .

2 نوسىنى راپۇرت و توپۇزىنەۋە (5) نمرەى بۇ تەرخانكراۋە

3 چالەكى و ئامادەبوونى كىردارەكى قوتابىش لە ناۋ ھۆلى خويىندن ( 5 ) نمرەى بۇ تەرخانكراۋە . بە ۋەلسەنگاندنەش (40)

نمرەى كۆششى سالانە بۇ قوتايى دەرەچىت

**15. دەرئەنجامەكانى فېربوون**

پىر كىردنەۋەى ئەم خانەيە زۇر گرنگە، مامۇستا دەرئەنجامەكانى فېربوون دەنووسىت. بۇ نمونە: روونى ئامانجە سەرەكەكانى كۆرسەكە (بابەتەكە) بۇ خويىندكار

گۈنجاندىنى ناۋەرۈكى كۆرسەكە بە پىۋىستى دەرەۋە و بازارى كار قوتايى چى نوى فېر دەبىت لە رېگەى پىدانى ئەم كۆرسەۋە؟

لە كۆتايى كۆرسەدا قوتايى:

ئاشنادەبىت بە كۆمەلىك دەقى فەلسەفەى فەيلەسوفە ئىنگلىزەكان.

ئاشنادەبىت بە ۋە دىبەيت و دىالۇگە فەلسەفەيەكانى يەبۋەستەن بەم كىتپانە.

ئاشنادەبىت بە قوتابخانە و رىبازە فەلسەفەيەكانى يەبۋەستەن بەم كىتپانە.

فېرى كۆمەلىك چەمك و زاراۋەرى فەلسەفەى دەبىت بە زمانى ئىنگلىزى.

ئاستى زمانى ئىنگلىزى بەرز دەبىتەۋە.

<p><b>16. لیستی سەرچاوه</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• سەرچاوه بنهڕهتیهکان</li> <li>• سەرچاوهی سوودبهخش</li> <li>• گوڤار و ریفیوو (نینهترنیت)</li> </ul> <p><b>بهکارهینانی سەرچاوهکانی نهنتهرنیت بۆ گهڕان بهدوای چهکه فلسهفیهکان. لهگهڵ نهو کتیب و فهرههنگه فلسهفیهکانی پیناسهی چهکهکانیان تیدایه.</b></p>	
<p><b>17. بابتهکان</b></p> <p>ناوێ مامۆستای وانهبیژ</p>	
<p>ناوێ مامۆستا بهختیار کهریم قارد وهک: ۲ کاتژمێر</p>	<p>لێره مامۆستای وانهبیژ ناوێشانی ههموو نهو بابتهانه دهنوسیت که بهنیازه بیلیتهوه له تیرمهکه. ههروهها کورتیهک له نامانجی ههڕهک له بابتهکان و بهروار و کاتی وانهکه دهنوسیت. ههڕه تیرمیک له ۱۶ ههفته کهمتر نهییت.</p> <p>بهشی یهکهم</p> <p>چهکه فلسهفیه سهرهکییهکان و پیناسهیان</p> <p>گفتوگۆی ههفتهانه</p> <p>ههله لۆجیکیهکان و نمونه</p>
<p><b>18. بابتهی پراکتیک (نهگهر ههبیته)</b></p>	
<p>ناوێ مامۆستا وهک: 3-4 کاتژمێر 2015/10/14</p>	<p>لێره مامۆستای وانهبیژ ناوێشانی ههموو نهو بابته پراکتیکانه دهنوسیت که بهنیازه بیلیتهوه له تیرمهکه. ههروهها کورتیهک له نامانجی ههڕهک له بابتهکان و بهروار و کاتی وانهکه دهنوسیت.</p>
<p><b>19. تاقیکردنهوهکان</b></p> <p><b>1. دارشتن: لهم جۆر هتاقیکردنهوهیه پرسیار مکان زۆربهی به وشهیی وهک روون بکهوه چۆن...؟ هۆکار مکان چی بوون...؟ بۆچی...؟</b></p> <p>چۆن...؟ دهستپێدکهات.</p> <p>لهگهڵ وهلامی نمونهییان</p> <p>نمونه دهبیته دهسته بهر بکریته</p> <p><b>به نمونهوه باسی ههلهیهکی لۆجیکی بکه؟</b></p> <p><b>ئهم چهمکانه پیناسه بکه به زمانی ئینگلیزی، عربی و کوردی؟</b></p>	
<p><b>20. تێبینی تر</b></p> <p>لێره مامۆستای وانهبیژ دهتوانیته تێبین و کۆمهنتی خۆی بنوسیت بۆ دهولمهاندکردنی پهڕتووکهکهی.</p>	
<p><b>21. پیناچوونهوهی هاوهل</b></p> <p>ئهم کۆرسبووکه دهبیته له لایهن هاوهلێکی ئهکادیمیهوه سهیر بکریته و ناوهڕۆکی بابتهکانی کۆرسهکه پهسهند بکات و جهند وشهیهک بنوسیت لهسهڕ شیاوی ناوهڕۆکی کۆرسهکه و واژووی لهسهڕ بکات.</p> <p>هاوهل نهو کهسهیه که زانیاری ههبیته لهسهڕ کۆرسهکه و دهبیته پلهی زانستی له مامۆستا کهمتر نهیته.</p>	